


Talking about the weather

موسم کے بارے میں بات کرنا



✎ Espen Stranger-Johannessen  
✉ Ognjen Drageljević  
✉ Yasir Tayab  
🗨️ 2  
🌐 / English (en) | اردو (ur)




**LIDA Stories**

[idastories.net](http://idastories.net)


بات کرنا / موسم کے بارے میں بات کرنا

**about the weather**

✎ Espen Stranger-Johannessen  
✉ Ognjen Drageljević  
✉ Yasir Tayab (ur)




This work is licensed under a Creative Commons  
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



“سردیوں کے دن آرہے ہیں۔ درجہ حرارت کچھ ہے؟”

...

“The days are starting to get cold. What is the temperature?”



“میں امید کرچکا ہوں ایسا نہ ہو۔ مجھے اصل میں خراب

موسم پسند نہیں ہے، خاص طور پر ریدل کی گرج اور

آسھنی بجلی۔ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ آسھنی بجلی مجھ پر

نہ گر جائے۔”


...

“I hope not. I really don't like bad weather, especially thunder and lightning. I'm afraid the lightning might strike me.”

“It’s nine degrees. It’s still autumn, but soon it will be winter.”

...


”درجہ حرارت نو ڈگری ہے۔ ابھی تک موسم خزاں ہی  
 ”آج سیرا موسم بہی خلد ہی ٹیکر ہے،




“Look at those dark clouds. Tomorrow it will rain. It will be very windy too. Perhaps there will be a storm.”

...

”ان سجدہ ذلولوں کو دیکھو۔ کل دیریش ہوگی۔ بہت تیز  
 ”بوائی بھی چلی گی۔ بہت طوفانی آئے گی۔






“مجھے موسم بہار کا انتظار ہے، لیکن میں موسم گرہ کو  
زیادہ پسند کرتے ہوں، جب یہ اچھا اور گرم ہوتا ہے۔”

...

“I’m looking forward to spring, but I  
prefer summer, when it’s nice and  
warm.”



“مجھے سردی کا موسم بُرا نہیں لگتا۔ لیکن ہرش اور ہوا  
مجھے پسند نہیں ہے۔”

...

“I don’t mind the cold. It’s the rain and  
wind I don’t like.”